

# Lev

## Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 וַיִּקְרָא אֱלֹ-מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר יְהוָה אֵלָיו מֵאֶהָל מוֹעֵד לֵאמֹר:

اور-پکارا کو موسیٰ اور-بولا خداوند اُس-سے سے-خیمہ اجتماع کہتے-ہوئے

[H0413](#) [H4872](#) [H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4150](#) [H0559](#)

کہا کر بلا کو موسیٰ سے میں خیمے کے ملاقات نے رب

2 דַבֵּר אֱלֹ-בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאִמְרַתְּ אֲלֵהֶם אָדָם כִּי-יִקְרִיבוּ אֵלֶיךָ מִכֶּם קָרְבָן

بول سے سے بنی اسرائیل اور-کہہ اور-کہہ اُن-سے آدمی جب قربانی-لائے تم-میں-سے نذرانہ

[H0413](#) [H1696](#) [H3478](#) [H0559](#) [H0413](#) [H0120](#) [H7126](#)

לַיהוָה خُדָוַנְד-کے-لیے لַיהוָה מִן-הַבְּהֵמָה מִן-הַבְּקָר וּמִן-הַצֹּאן תִּקְרִיבוּ אֵת-קָרְבַנְכֶם:

خداوند-کے-لیے سے جانوروں سے گائے-بیل اور-سے بھیڑ-بکری قریب-لاؤ کو اپنا-نذرانہ

[H3068](#) [H0929](#) [H1241](#) [H6629](#) [H7126](#) [H0853](#)

لے-جن جانور سے میں بھیڑ-بکریوں یا گائے-بیلوں اپنے وہ تو چاہے کرنا پیش قربانی کو رب کوئی سے میں تم اگر دے، اطلاع کو اسرائیلیوں کہ

3 אִם-עֹלָה קָרְבָנוֹ מִן-הַבְּקָר גָּאֵה-בֵּיל נֵר זָכָר תָּמִים יִקְרִיבוּ אֵל-פֶתַח אֹהֶל

اگر سوختنی-قربانی اُس-کا-نذرانہ سے گائے-بیل نر بے-عیب قریب-لائے پر دروازے خیمہ

[H0413](#) [H7126](#) [H8549](#) [H2145](#) [H1241](#) [H6607](#) [H0168](#)

מוֹעֵד יִקְרִיבוּ אֵתוֹ מוֹעֵד اجتماع قریب-لائے اُسے مقبولیت-کے-لیے لָפְנֵי יְהוָה:

اجتماع قریب-لائے اُسے مقبولیت-کے-لیے سامنے خداوند

[H4150](#) [H7126](#) [H0853](#) [H7522](#) [H6440](#) [H3068](#)

رب تاکہ کرے پیش پر دروازے کے خیمے کے ملاقات اُسے کر چن بیل بے عیب وہ تو چاہے چڑھانا قربانی والی ہونے بھسم سے میں گائے-بیلوں اپنے وہ اگر کرے۔قبول اُسے

4 וְסִמְךָ יָדוֹ עַל-רֹאשׁ עֹלָה קָרְבָנוֹ מִן-הַבְּקָר לְכַפֵּר עָלָיו:

اور-رکھے اپنا-ہاتھ پر سر سوختنی-قربانی اور-مقبول-ہو اُس-کے-لیے کفارہ-دینے-کو اُس-پر

[H5564](#) [H3027](#) [H7521](#)

گی۔دے کفارہ کا اُس کر ہو مقبول قربانی یہ تو رکھے پر سر کے جانور ہاتھ اپنا والا کرنے پیش قربانی

5 וְשָׁחַתְּ אֶת-בֶּן-בְּקָר לִפְנֵי יְהוָה خُדָוַנְד-کے-لیے بְּנֵי אֶהֱרֹן אֶהֱרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת-

اور-ذبح-کرے کو بچھڑے گائے-بیل سامنے خداوند اور-قریب-لائیں بنی بارون کابن کو

[H0853](#) [H1241](#) [H6440](#) [H3068](#) [H7126](#) [H0175](#) [H3548](#) [H0853](#)

הַדָּם חֹן וְזָרְקוּ אֶת-הַדָּם עַל-הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב אֲשֶׁר-פֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד:

خون اور-چھڑکیں کو خون پر قربان-گاہ چاروں-طرف جو دروازے خیمہ اجتماع

[H1818](#) [H2236](#) [H0853](#) [H1818](#) [H4196](#) [H5439](#) [H6607](#) [H0168](#) [H4150](#)

گاہ قربان کی پر دروازے اُسے کے کر پیش کو رب خون کا اُس ہیں امام جو بیٹے کے بارون پھر کرے۔ ذبح سامنے کے رب وہاں کو بیل والا کرنے پیش قربانی چھڑکیں-پر پہلوؤں چار کے

6 וְהִפְשִׁיט אֶת-הָעֹלָה וְנָתַח אֹתָהּ לְנִתְחֶיהָ:

اور-کھال-اتارے کی سوختنی-قربانی اور-کائے اُسے ٹکڑوں-میں

[H0853](#) [H6584](#) [H5408](#) [H0853](#) [H5409](#)

کرے۔ٹکڑے-ٹکڑے کے جانور کر اتار کھال والا کرنے پیش قربانی بعد کے اِس

7	וְנִתְּנוּ	בְּנֵי	אֶהְרֹן	הַכֹּהֵן	אֵשׁ	עַל־	הַמִּזְבֵּחַ	וְעָרְכוּ	עֵצִים	עַל־	הָאֵשׁ:
	اور-رکھیں	بنی	بارون	کابن	آگ	پر	قربان-گاہ	اور-ترتیب-دیں	لکڑیاں	پر	آگ
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H0784</a>

چنیں۔لکڑیاں سے ترتیب پر اُس کر لگا آگ پر گاہ قربان امام

8	وְעָرְכוּ	בְּנֵי	אֶהְרֹן	הַכֹּהֲנִים	אֵת	הַנִּתְּחִים	אֵת־	הָרֹאשׁ	וְאֵת־	הַפָּדֶרֶת	עַל־
	اور-ترتیب-دیں	بنی	بارون	کابن	کو	تکڑوں	کو	سر	اور-کو	چربی	پر
	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5409</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5409</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6309</a>	<a href="#">H0784</a>

הָעֵצִים	אֲשֶׁר	עַל־	הָאֵשׁ	אֲשֶׁר	עַל־	הַמִּזְבֵּחַ:
لکڑیوں	جو	پر	آگ	جو	پر	قربان-گاہ
<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H4196</a>				

رکھیں۔سمیت چربی اور سر تکڑے کے جانور وہ پر اُس

9	וְקָרְבוּ	וְכָרְעוּ	יְרִתִּין	בְּמִים	וְהִקְשִׁיר	הַכֹּהֵן	אֵת־	הַכֹּל	הַמִּזְבֵּחַ
	اور-اُس-کی-انٹڑیاں	اور-اُس-کی-ٹانگیں	دھوئے	پانی-سے	اور-جلائے	کابن	کو	سب	قربان-گاہ-پر
	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H3767</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4196</a>

עֹלָה	אֲשֶׁה	רִיח־	נִיחֹחַ	לִיהוָה:	ס
سوختنی-قربانی	آگ-سے	خوشبو	خوشگوار	خداوند-کے-لیے	س
<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>

کی قربانی والی جلتے اِس دے۔ جلا پر گاہ قربان کو جانور پورے امام پھر دھوئے، پنڈلیاں اور انٹڑیاں کی جانور پہلے والا کرنے پیش قربانی کہ بے لازم

بے۔پسند کو رب خوشبو

10	וְאֵם־	מִן־	הַצֹּאן	קָרְבָּנוֹ	מִן־	הַכְּשָׂבִים	אוֹ	מִן־	הָעִזִּים	לְעֹלָה
	اور-اگر	سے	بھیڑ-بکری	اُس-کا-نذرانہ	سے	بھیڑوں	یا	سے	بکریوں	سوختنی-قربانی-کے-لیے
	<a href="#">H2145</a>	<a href="#">H8549</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H3775</a>	<a href="#">H3775</a>	<a href="#">H5795</a>				

זָכָר	תָּמִים	יְקָרִיבֵנוּ:
نر	بے-عیب	قرب-لائے
<a href="#">H2145</a>	<a href="#">H8549</a>	<a href="#">H7126</a>

بو۔نر بے عیب وہ تو جائے چنی سے میں بھیڑبکریوں قربانی والی ہونے بہسم اگر

11	וְשָׁחַט	אֹתוֹ	עַל־	יָרֵךְ	הַמִּזְבֵּחַ	צִפְנָה	לְפָנַי	יְהוָה	וּזְרָקוֹ	בְּנֵי	אֶהְרֹן
	اور-ذبح-کرے	اُسے	پر	طرف	قربان-گاہ	شمال	سامنے	خداوند	اور-چھڑکیں	بنی	بارون
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3409</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H6828</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0175</a>

הַכֹּהֲנִים	אֵת־	דָּמוֹ	עַל־	הַמִּזְבֵּחַ	סָבִיב:
کابن	کو	اُس-کا-خون	پر	قربان-گاہ	چاروں-طرف
<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H5439</a>

پر پہلوؤں چار کے گاہ قربان خون کا اُس ہیں امام جو بیٹے کے بارون پھر کرے۔ ذبح میں سمت شمالی کی گاہ قربان سامنے کے رب اُسے والا کرنے پیش

چھڑکیں۔

12	וְנִתַּח	אֹתוֹ	לְנִתְּחָיו	וְאֵת־	רֹאשׁוֹ	וְאֵת־	פָּדֶרֶת	וְעָרְפוֹ	הַכֹּהֵן	אֹתָם	עַל־
	اور-کاٹے	اُسے	تکڑوں-میں	اور-کو	اُس-کا-سر	اور-کو	اُس-کی-چربی	اور-ترتیب-دے	کابن	انہیں	پر
	<a href="#">H5408</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5409</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6309</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>

הָעֵצִים	אֲשֶׁר	עַל־	הָאֵשׁ	אֲשֶׁר	עַל־	הַמִּזְבֵּחַ:
لکڑیوں	جو	پر	آگ	جو	پر	قربان-گاہ
<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H4196</a>				

رکھے۔سے ترتیب پر لکڑیوں بوئی جلتی کی گاہ قربان سمیت چربی اور سر تکڑے یہ امام اور کرے تکڑے تکڑے کے جانور والا کرنے پیش بعد کے اِس

13	וְהִקְרַב	וְהִקְרַעִים	יִרְתֵּן	בְּמִים	וְהִקְרִיב	הִכְהֵן	אֶת-	הַכֹּל	וְהִקְטִיר	הַמִּזְבֵּחַ
	اور-انتزیاں	اور-ٹانگیں	دھوئے	پانی-سے	اور-قریب-لائے	کابن	کو	سب	اور-جلانے	قربان-گاہ-پر
	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H3767</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4196</a>	

عَلَا	הוּא	אִשָּׁה	רִיחַ	נִיחֹחַ	לִיהוּה:	פ
سوختنی-قربانی	یہ	آگ-سے	خوشبو	خوشگوار	خداوند-کے-لیے	پ
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>		

جلنے اس دے۔ جلا پر گاہ قربان کے کر پیش کو رب کو جانور پورے امام پھر دھوئے، پنڈلیاں اور انتزیاں کی جانور پہلے والا کرنے پیش قربانی کہ بے لازم ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی قربانی والی

14	וְאִם	מִן-	הָעוֹף	עֹלָה	קָרְבָנוֹ	לִיהוּה	וְהִקְרִיב	מִן-	הַתְּרִים
	اور-اگر	سے	پرندے	سوختنی-قربانی	اُس-کا-نذرانہ	خداوند-کے-لیے	اور-قریب-لائے	سے	قمریوں
			<a href="#">H5775</a>			<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7126</a>		<a href="#">H8449</a>

אֹ	מִן-	בְּנֵי	הַיּוֹנָה	אֶת-	קָרְבָנוֹ:
یا	سے	بچوں	کبوتر	کو	اپنا-نذرانہ
			<a href="#">H3123</a>	<a href="#">H0853</a>	

بو-کبوتر جوان یا قمری وہ تو بو پرندہ قربانی والی ہونے بہسم اگر

15	وְהִקְרִיבוּ	הִכְהֵן	אֶל-	הַמִּזְבֵּחַ	וּמִלֶּקֶ	אֶת-	רֹאשׁוֹ	וְהִקְטִיר	הַמִּזְבֵּחַ
	اور-قریب-لائے	کابن	پر	قربان-گاہ	اور-مروڑ-دے	کا	اُس-کا-سر	اور-جلانے	قربان-گاہ-پر
	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H4454</a>	<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H4196</a>

וְנִמְצָה	דָּמוֹ	עַל	קִיר	הַמִּזְבֵּחַ:
اور-نچوڑا-جائے	اُس-کا-خون	پر	دیوار	قربان-گاہ
<a href="#">H4680</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H7023</a>	<a href="#">H4196</a>	

نیچے سے طرف ایک کی گاہ قربان وہ کہ دے نکلے یوں خون کا اُس وہ دے۔ جلا پر گاہ قربان کر مروڑ سر کا اُس اور آئے لے پاس کے گاہ قربان اُسے امام ٹپکے۔

16	וְהִסִיר	אֶת-	מִרְאֵתוֹ	בְּנִצְתָהּ	וְהִשְׁלִיךְ	אֹתָהּ	אֶצֶל	הַמִּזְבֵּחַ	קָדְמָה	אֶל-	מְקוֹם
	اور-نکالے	کو	اُس-کی-پوٹا	پروں-سمیت	اور-پھینکے	اُسے	پاس	قربان-گاہ	مشرق	پر	جگہ
	<a href="#">H5493</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4760</a>	<a href="#">H5133</a>	<a href="#">H7993</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0681</a>	<a href="#">H4196</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4725</a>

הַרְשֵׁן:  
راکہ  
[H1880](#)

بے-جاتی پھینکی راکھ جہاں وہاں دے، پھینک میں سمت مشرقی کی گاہ قربان کے کر دُور بے میں اُس جو اور پوٹا کا اُس وہ

17	וְשָׁסַע	אֹתוֹ	בְּכַנְפָיו	לֹא	יִבְדִּילֶהָ	וְהִקְטִיר	אֹתוֹ	הִכְהֵן	הַמִּזְבֵּחַ	עַל-
	اور-چیرے	اُسے	اُس-کے-پروں-سے	نہیں	الگ-کرے	اور-جلانے	اُسے	کابن	قربان-گاہ-پر	پر
	<a href="#">H8156</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0914</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H4196</a>	

הָעֵצִים	אֲשֶׁר	עַל-	הָאֵשׁ	עֹלָה	הוּא	אִשָּׁה	רִיחַ	נִיחֹחַ	לִיהוּה:	ס
لکڑیوں	جو	پر	آگ	سوختنی-قربانی	یہ	آگ-سے	خوشبو	خوشگوار	خداوند-کے-لیے	س
<a href="#">H6086</a>			<a href="#">H0784</a>		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>	

بوئی جلتی پر گاہ قربان اُسے امام پھر جائے۔ بو نہ ٹکڑے ٹکڑے بالکل وہ کہ یوں لیکن ڈالے، پھاڑ کو پرندے کر پکڑ پر کے اُس امام وقت کرتے پیش اُسے ہے۔ پسند کو رب خوشبو کی قربانی والی جلنے اس دے۔ جلا پر لکڑیوں